



”اين سعادت بزورِ بازو نيست“

”مشاهدات“ کی مالاکے

1000

موتی

یکے از آن لائن مطبوعات ”مشاهدات“

30

ابوسعید حنیف احمد محمود

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(الضحى: 12)

# ”ایں سعادت بزور بازو نیست“


”مشاہدات“ کی مالا کے 1000 موتی

یکے از آن لائن مطبوعات ”مشاہدات“

30

ابو سعید حنیف احمد محمود

رابطہ کرنے کے لیے



ای میل ایڈریس: [hanifahmadmahmood@hotmail.com](mailto:hanifahmadmahmood@hotmail.com)

ویب سائٹ: [www.mushahadat.com](http://www.mushahadat.com)

فون نمبر: +44 73 7615 9966

## اک سے ہزار ہوویں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے:

”یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ تالیفات کی نسبت یہ عام محاورہ ہے کہ ان کو نتائج طبع کہتے ہیں یعنی طبع زاد بچے“

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350-351)

لغات میں لکھا ہے کہ نتائج طبع سے مراد طبیعت کا بچہ یا طبیعت کی اولاد کے ہیں اور طبع زاد بچے سے مراد اپنی ایجاد اور تخلیق کے ہیں گویا تصنیفات اور تالیفات انسان کے بچے کی طرح ہیں۔ لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے ایک ربیہ شہزادی سے شادی کر لی جس نے بھوپال کے خزانے اور اپنے تمام تراختیار نواب صاحب کو دے کر خود نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نواب صاحب نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ

”ربیہ سے کچھ اولاد نہ ہوئی البتہ اولادِ معنوی یعنی تالیف و اشعار کتب، جو کہ سعادت کے اعتبار سے اولادِ ذریت ظاہری سے بالاتر ہے۔ یہ توفیق حصولِ جاہ و فرصت کے سبب نصیب ہوئی۔ اگر ربیہ عالیہ سے نکاح نہ ہوتا تو بظاہر علم کتبِ دینی کی اشاعت کی کوئی صورت نہ تھی۔“

(البقاء البنین بالقاء البحن صفحہ 162-163)

ادب اور تحریر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی تصنیفات اور مضامین کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں۔ جنم یعنی طباعت کے بعد اشاعت کے لئے رونمائی کرتے ہیں جو بچے کو گھٹی دینے کے مترادف ہے اور پھر بڑے پیار سے اور بھرپور کوشش سے اس کی اشاعت کرتے ہیں اور اپنی تصنیفات اور تحریرات کو بار بار پڑھ کر ان میں اضافہ کر کے انہیں نئے رنگ دیتے رہتے ہیں یوں ان کا مضمون بینہتا، بڑھتا اور صحت کے اعتبار سے بہتر ہوتا رہتا ہے جس طرح ان کی جسمانی اولاد بڑھتی اور نشوونما پاتی ہے۔ مصنفین سے رابطہ کر کے اگر پوچھیں تو وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اپنی کتب سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو گو مصنف تو نہیں ہوتے لیکن کتبِ بنی کا شوق رکھتے ہیں اور کتابوں سے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔

یہ تصنیفات و تحریرات اور مضامین کسی انفرادی بندے کی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی ادارے کی بھی جیسے ”مشاہدات“ کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ مختلف النوع عناوین اور موضوعات پر ایک ہزار (1000) تقاریر تکمیل کے بعد ویب سائٹ [www.mushahadat.com](http://www.mushahadat.com) پر استفادہ عام کے لئے مہیا کر دی گئی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین

یہ اہم تاریخی خدمت قریباً 944 دنوں یعنی دو سال سات ماہ میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا پراجیکٹ تھا جو میرے اکیلے کالس نہیں تھا۔ اس دینی و علمی کام میں بیسیوں خدمت گزاروں نے محض اللہ رضا کارانہ طور پر میرا ساتھ نبھایا۔ ان میں سے بعض اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے خدمت سے الگ ہوتے گئے اور بعض نئے خدمت گزار مشاہدات کی ٹیم میں شامل ہوتے گئے۔ ان تمام خدمت گزاروں کے یہاں نام دینے نہ صرف مشکل نظر آتے ہیں بلکہ محال لگتے ہیں۔ ان تمام کے لئے دل کی گہرائیوں سے جزا ہم اللہ تعالیٰ خیرًا وَاَیَّکُمْ بِنصۃِ اللہ العزیز وکان اللہ معہم و نفع اللہ بوجودہم کی دعا دیتا ہوں۔

اس تاریخ ساز موقع پر جب کہ ”مشاہدات“ اپنی دس سچریاں مکمل کر کے خلافت کے سایہ تلے ایک لازوال علمی و تربیتی سرمایہ آئندہ نسلوں کے افادہ کے لئے چھوڑ رہا ہے۔ اس موقع پر جو لوگ خدمت میں مصروف ہیں ان کے اسماء بغرض حصولِ دعا درج کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ عزیزم زاہد محمود، عزیزم منہاس محمود۔ جرمنی، عزیزم سعید الدین احمد۔ برطانیہ، عزیزم عامر محمود۔ برطانیہ، عزیزم فضل عمر شاہد۔ لٹویا، مسز عائشہ چوہدری۔ جرمنی، مسز عطیۃ العلیم۔ ہالینڈ، مسز بقعۃ النور عمران۔ جرمنی اور مسز زکیہ فردوس کول۔ برطانیہ۔ اشعار اور دیگر امور میں مشورہ جات کی صورت میں مسز امۃ الباری ناصر آف امریکہ شامل رہیں۔ جہاں تک ان ”مشاہدات“ کی تشہیر اور احبابِ جماعت تک پہنچانے کا تعلق ہے اس اہم کام میں سینکڑوں نہیں ہزاروں دوستوں نے حصہ ڈالا۔ وہ اپنے عزیز واقارب اور اپنے جان پہچان رکھنے والے لوگوں تک انہیں باقاعدگی سے بھجواتے رہے ان کے نام لکھنے مشکل ہیں تاہم انہیں جزا ہم اللہ احسن الجزاء کی دعا ہے۔ تشہیر اور احبابِ جماعت کی ڈیمانڈ پر مکرّم نصیر احمد باجوہ۔ جرمنی اور عزیزم ڈاکٹر نصیر احمد طاہر۔ ویلز، برطانیہ شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس حوالہ سے لاجواب خدمات سرانجام دی ہیں۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ

میں یہاں اپنی بیماری نو اسی عزیزہ ایمان عمران سلمہا اللہ تعالیٰ آف جرمنی کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مارچ 2023ء کی بات ہے جب میں جرمنی وزٹ پر تھا اور اس بیماری نو اسی کی ایک بیماری حرکت کا مشاہدہ کر کے میں نے ایک تحریر لکھی اور اُس کا نام مشاہدہ رکھ کر تحریر کا عنوان باندھا تھا۔ شاگرد نے جو پایادہ اُستاد کی دولت ہے۔ اور یوں ”مشاہدات“ کے نام سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ اسلام آباد پاکستان میں بطور مربی ضلع خدمات کے دوران لجنہ اماء اللہ کی طرف سے تربیتی کتب کی اشاعت کے کام کا آغاز جب ہوا اور دسیوں کتب منصفہ شہود میں آئیں تو اس دوران خواتین کی درخواست اور مطالبہ پر یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ بچوں اور بچیوں کی تربیت اور علمی استعدادوں کو بڑھانے کے لئے تقاریر پر ایک کتاب شائع کروائی جائے۔ گو اس پر اجیکٹ پر کام کا آغاز تو خاکسار نے کر دیا مگر جماعت کی دیگر ترجیحی خدمات کی وجہ سے اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا تاہم بہت سے دیگر دوستوں نے اس پر کافی کام کیا۔ خاکسار کو اب ”مشاہدات“ کے پلیٹ فارم سے یہ خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

اب یہ بھی خوشی کی خبر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ”مشاہدات“ کے تحت تقاریر کے دوسرے ہزاروں میں داخل ہو چکے ہیں اور تقاریر تیار ہو کر اگلا پڑاؤ طے کرنے کے سفر پر گامزن ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک

قارئین اور خیر خواہوں کو یہ خوشخبری بھی دینی مقصود ہے کہ یہ ایک ہزار تقاریر مختلف 30 ٹاپک کے تحت کتابی صورت میں ویب سائٹ پر موجود ہیں اور مزید کتب پر کام ہو رہا ہے۔ کتب کے سلسلہ میں ویب سائٹ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

جس طرح کچھ بچے اپنی بعض خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں شہرت پاتے ہیں اسی طرح ”مشاہدات“ کے تمام بچوں نے دنیا میں شہرت پائی۔ یہ سلسلہ ”آن لائن“ کتب اور مضامین کا ہے جو دنیا بھر میں لارج سکیل پر شیئر ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے Gadgets میں انہیں save کیا۔ جماعتی اور ذیلی تنظیموں کے اجلاسات و اجتماعات پر بطور تقریر پڑھا اور سنا گیا اور ہزاروں لوگوں کے علم و عرفان میں اضافے کا موجب ہوئیں۔

میں ادارہ ”مشاہدات“ کے ان 30 ہونہار بچوں کے نام بغرض تعارف یہاں دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اشاعت کو درازی عمر عطا کرے۔ آمین

- 1- جماعت احمدیہ و ذیلی تنظیموں کے عہد اور ہماری ذمہ داریاں
- 2- تقاریر سیرت و شمائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول
- 3- 100 تقاریر برائے ممبرات لجنہ اماء اللہ بر موقع صد سالہ جوہلی
- 4- 52 علامات 52 تقاریر بابت پیشگوئی مصلح موعودؑ
- 5- 50 تقاریر بر موقع یوم مسیح موعودؑ
- 6- 30 دروس بابت رمضان المبارک
- 7- 50 تقاریر بر موقع یوم خلافت (حصہ اول)
- 8- 25 تقاریر بابت انفاق فی سبیل اللہ
- 9- 65 تقاریر برائے انصار اللہ
- 10- 20 تقاریر بابت محرم الحرام
- 11- 25 تقاریر بابت اہل بیت رسولؐ اور ان کا مقام و مرتبہ
- 12- 50 تقاریر بابت سیرت و شمائل حضرت محمدؐ (حصہ دوم)
- 13- 70 تقاریر برائے خدام الاحمدیہ
- 14- 50 تقاریر بابت قرآن کریم (حصہ اول)
- 15- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (حصہ اول)
- 16- 60 تقاریر بابت افرادِ خاندان حضرت مسیح موعودؑ (حصہ اول)
- 17- 40 تقاریر بابت افرادِ خاندان حضرت مسیح موعودؑ (حصہ دوم)
- 18- 20 تقاریر بابت فلسفہ دُعا اور اس کی حقیقت
- 19- 30 دروس بابت رمضان المبارک 2025ء (حصہ دوم)
- 20- 30 تقاریر بابت رمضان المبارک 2025ء (جلد اول)
- 21- 50 تقاریر بر موقع یوم مسیح موعودؑ 2025ء (جلد دوم)
- 22- 50 تقاریر بر موقع یوم خلافت 2025ء (حصہ دوم)

23- 10 تقاریر بعنوان صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا

24- 20 تقاریر بعنوان صحبتِ صالحین

25- 50 تقاریر بابت سیرت و شمائل حضرت محمد ﷺ (حصہ سوم)

26- 30 تقاریر بابت قولِ سدید و قولِ زور

27- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (حصہ دوم)

28- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (حصہ سوم)

29- 50 تقاریر برائے نو نہالانِ جماعت

30- ”مشاہدات“ کی مالا کے 1000 موتی

اس سے قبل خاکسار کو بطور ایڈیٹر ادارہ ”روزنامہ الفضل آن لائن لندن“ کے تحت نصف سینکڑے سے زائد 51 تصنیفات آن لائن کرنے کی توفیق ملی۔ الفضل آن لائن لندن کے یہ تمام بچے نیک نامی کا باعث بنے اور انہوں نے خوب شہرت سمیٹی۔ الحمد للہ علی ذالک

اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خاکسار

ابوسعید حنیف احمد محمود

مرتب سلسلہ حال برطانیہ

(شاہد۔ عربی فاضل)

(سابق ایڈیٹر روزنامہ الفضل ربوہ والفضل آن لائن لندن و نائب ناظر اصلاح و ارشاد مرکز یہ)

15 نومبر 2025ء

www.mushahedat.com

ویب سائٹ:

+44 73 7615 9966

فون نمبر:

haniyahmahmood@hotmail.com

ای میل:

## فہرست 1000 مشاہدات میں تقریر تلاش کرنے کا آسان ترین طریق

1- جس عنوان پر تقریر درکار ہو۔ اُس کو اس صفحہ کی پشت پر دی گئی کیٹگریز کے ساتھ میچ کریں اور پھر ویب سائٹ [www.mushahadat.com](http://www.mushahadat.com) پر متعلقہ کیٹگری میں اپنے عنوان کو تلاش کریں۔ ایک عنوان ایک سے زائد کیٹگریز میں موجود ہوتا ہے۔

2- مشاہدات کی مختلف عناوین کے ساتھ 30 کتب جن کی فہرست اور ٹائٹل کے نقوش اس فہرست والی کتاب کے آخر میں دیئے جا رہے ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے متعلقہ کتاب میں تلاش کریں۔

3- اگر ان سے نہ مل سکے تو واٹس ایپ نمبر 9966 7615 73 44+ پر عنوان کے ساتھ نمبر بتا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نمبر بتانے کے بغیر تقریر مہیا نہیں کی جاسکے گی۔



## ”مشاہدات“ کی کیڈنگریز

- تعارف کتب
- تقاریر
- دروس
- علمی مضامین
- اعلانات
- اللہ تعالیٰ
- قرآن وحدیث
- انبیاء
- آنحضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
- اہل بیت
- صحابہ رسول
- حضرت مسیح موعود
- حضرت مصلح موعود
- خلفاء احمدیت
- اصحاب مسیح موعود
- احمدیت
- خلافت
- ذیلی تنظیمیں
- جلسہ سالانہ
- عبادات
- رمضان

- قبولیت و دعا
- والدین
- تحریک جدید
- وقف جدید
- مالی قربانی
- انسانیت
- اخلاقیات
- خدمت خلق
- تربیت و اصلاح
- ذاتی اصلاح
- جادو ٹونہ و رسومات
- تاریخ
- محرم



## روزانہ کے مشاہدات کو محفوظ کریں

1- اگر آپ تقاریر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو روزانہ اس کو اپنے gadgets میں محفوظ کر لیں۔ واٹس ایپ نے ہر میسج کو محفوظ کرنے کا طریق متعارف کروایا ہے۔

2- مشاہدات کی کتب کو بھی کم از کم محفوظ کر لیں۔ ان سے تقاریر کی تلاش آسان ہے۔



# محفوظ قلعے میں داخل ہونے کی تحریک

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 23 اگست 2024ء میں یہ تحریک فرمائی کہ بڑی عمر کے افراد **200 مرتبہ**، 15 سے 25 سال کے افراد **100 مرتبہ** یہ دعائیں پڑھیں اور چھوٹے بچوں سے والدین **3، 4 دفعہ** دہرائیں

Hazrat Khalifatul Masih V (may Allah be his helper) instructed in his Friday Sermon on August 23rd, 2024, that adults should recite these prayers **200 times**, individuals aged 15 to 25 should recite them **100 times**, and parents should repeat these prayers with young children **three or four times**:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَلْهَمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔  
Holy is Allah, worthy of all praise and greatness. O Allah, bestow Your blessings upon Muhammad and the people of Muhammad.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

100 دفعہ روز کریں | 100 times daily

میں اللہ اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور اس کی طرف جھکتا ہوں۔

I seek forgiveness from Allah, my Lord, for all my sins and turn to Him.

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمَكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَالصَّبْرَانِي وَالْحَبْنِي

100 دفعہ روز کریں | 100 times daily

اے میرے رب! ہر ایک چیز تیری خدام ہے۔ اے میرے رب! اس لیے مجھے محفوظ رکھ اور میری ہمدرد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔

My Lord, everything is subservient to You! Protect me, help me, and have mercy on me.

ویب سائٹ: www.mushahadat.com

فون نمبر: +44 73 7615 9966

## فہرست مشاہدات

مشاہدات	عنوان
1	شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے
2	آپ مسلمانوں کے مزے ہیں جی!
3	تلاوت قرآن کریم اور بعض مسنون کلمات
4	دعا کے لیے اگر جواب جلدی مل جائے تع عموماً اچھا نہیں ہوتا
5	محتاج ہے کچھ تھوڑے سے اسے دے دو
6	برائیوں کے چوہے
7	تعلق باللہ کے مختلف پہلو
8	پہلی چودہ ممبرات، لجنہ کے علمبردار کے طور پر
9	خواتین کی تعلیم لجنہ اماء اللہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے
10	حضرت اماں جان، لجنہ اماء اللہ کے لیے روشنی کی ایک کرن
11	الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ
12	لجنہ اماء اللہ، مالی قربانیوں میں سب سے آگے
13	لجنہ اماء اللہ، تبلیغ میں سب سے آگے
14	لجنہ اماء اللہ کا قیام
15	سوسال میں لجنہ اماء اللہ کی ترقیات
16	میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی
17	لجنہ اماء اللہ کے کارنامے

18	جماعت احمدیہ کی ترقی میں لجنہ کا تعاون / کردار
19	عورتوں کی تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی
20	ہیں دیں کی ناصرات ہم، بہار کائنات ہم
21	لجنہ اماء اللہ اور خلافت
22	لجنہ کی تنظیم بھائی چارے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے
23	سوشل میڈیا کا استعمال اور لجنہ کی ذمہ داریاں
24	بدر سوم کے خلاف جہاد اور لجنہ کی ذمہ داری
25	پر سکون عائلی زندگی بہترین تربیت اولاد کی ضامن
26	تنظیم لجنہ اماء اللہ نے مجھے کیا دیا؟
27	بچوں کے رشتوں کے لیے انتخاب کے لیے زریں ہدایات
28	الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمَّهَاتِ
29	عہد لجنہ اماء اللہ اور ہماری ذمہ داریاں
30	میں اپنا ناصرات کا عہد کیسے پورا کر سکتی ہوں؟
31	تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا ضروری ہے
32	(انسانی) اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے
33	شادی ایک مدرسہ ہے
34	والدین سے حسن سلوک
35	لجنہ اماء اللہ اور خواتین کی بااختیاری
36	احمدی مستورات کی مالی و جانی قربانیاں
37	برطانیہ میں لجنہ اماء اللہ کا قیام
38	خطبات امام کی اہمیت و برکات اور انصار کی ذمہ داریاں
39	نماز کی اہمیت و ضرورت اور انصار اللہ
40	نماز تہجد اور انصار بطور نمونہ

41	احمدی خواتین ایمان کی محافظ ہیں
42	خلافت ایک حصن حصین ہے
43	صحت مند اور توانا مومن، کمزور مومن سے بہتر ہے
44	عہد انصار اللہ اور ہماری ذمہ داریاں
45	خدمتِ دین میں لجنہ اماء اللہ کا امتیازی مقام
46	تربیتِ اولاد اور ماؤں کی ذمہ داریاں (جدید ایجادات کی روشنی میں)
47	تربیتِ اولاد اور انصار کی ذمہ داریاں
48	اس زمانہ کا حصن حصین میں ہوں
49	تربیتِ اولاد کے گُر
50	خلافت، امن و عافیت کا حصار ہے
51	ہمارے خلفائے احمدیت، حقوق نسواں کے حقیقی علمبردار
52	ابراہیم بنو
53	واقفین نو کو اپنے اندر اسماعیلی صفات پیدا کرنی ہوں گی
54	طبقہ نسواں اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ کے چند قیمتی ارشادات
55	نماز باجماعت اور مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے ذرائع
56	خلافتِ جبلِ متین ہے
57	تلاوتِ قرآن کریم کی اہمیت، برکات اور آداب
58	درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے
59	اللہ کا رنگ پکڑیں
60	انفاق فی سبیل اللہ
61	عاجزی و انکساری
62	آنحضورؐ دوسروں کے لئے کامل نمونہ
63	صبر و تحمل اور وسعتِ حوصلہ

64	ریاکاری، عجب پسندی اور دکھاوا ایک گناہ ہے
65	رشتہ داریوں کا تقدس و احترام
66	استغفار، ایک تعویذ اور دوا ہے
67	غیبت ایک زہر قاتل
68	الْمُسْلِمُ مِرَاةُ الْمُسْلِمِ
69	الْإِمَامُ جَنَّةٌ
70	اسلام میں مالی قربانیوں کی اہمیت اور اس کی برکات
71	وقف زندگی کی اہمیت اور برکات
72	عہد بیعت، عہد خدام الاحمدیہ اور معروف فیصلے کی اہمیت اور ضرورت
73	اتجھے احمدی کی اچھی ماں۔ زندہ باد
74	پانچ بنیادی اخلاق
75	كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ
76	الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ
77	نوجوانوں کو کلاسیوں پر دھاگے کے بیئڈ، بالی اور لاکٹ پہننے کی ممانعت
78	برکاتِ خلافت
79	جادو، ٹونہ ٹوکا اور مزاروں پر جانا
80	فضائل و برکاتِ قرآن کریم
81	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت و محبت بھر اسلوک
82	خلیفۃ المسیح کو خطوط لکھنے کی اہمیت، افادیت اور برکات
83	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق الہی
84	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول
85	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق قرآن
86	حصول علم اور اس کی ترغیب و ذرائع

خدا داری چہ غم داری	87
اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو!	88
ہر چہ داری خرچ کن در راہ او	89
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں درازی عمر کا نسخہ	90
خود احتسابی، ترقی کا ایک زینہ ہے	91
خدا ام الاحمدیہ کا عہد اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں	92
عمل، ایمان کا زیور ہے	93
لباس التقوی	94
احسان کی مختلف اقسام و مدارج	95
اطفال کا وعدہ اور بچوں کی ذمہ داریاں	96
اللہ تعالیٰ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا	97
راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا	98
خدمت دین کو اک فضل الہی جانو	99
جھوٹ سے اجتناب	100
امن کا شہزادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم	101
عہد بیعت اور ہماری ذمہ داری	102
تجدید عہد و فائے خلافت اور ہماری ذمہ داریاں	103
طبقہ نسواں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات	104
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں	105
قرآنی احکام کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعلیم و تربیت	106
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک	107
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکسار اور سادگی	108
میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے لیے نمونہ	109

110	جلسہ سالانہ کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور برکات (حضرت مسیح موعودؑ کے ارشادات کی روشنی میں)
111	جلسہ سالانہ کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور برکات (خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں)
112	جلسہ سالانہ کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور برکات (حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں)
113	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
114	احمدی شہید خواتین کی لازوال جانی قربانیاں
115	حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ
116	قوموں کی اصلاح جو جوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی
117	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن معاشرت
118	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قرآن
119	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایقانے وعدہ
120	صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و وفا کی داستانیں
121	الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام ”يَنْقُطُ آبَاؤُكَ وَيُجِدُّ مِثْلَكَ“ کی تکمیل
122	لجنہ اماء اللہ کی مالی قربانیوں سے دنیا بھر میں مساجد کا قیام
123	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات (احادیث نبوی کی روشنی میں)
124	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ
125	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کے محافظ
126	سر جھکا بس! مالک ارض و سماء کے سامنے
127	مذہبی آزادی اور رواداری کی اسلامی تعلیم اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ

128	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی اور اللہ کے لیے غیرت
129	صحابیات کا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قدرت قدسیہ سے فیض پانے کے واقعات
130	جماعتی و ذیلی عہدیداران کو اپنے سپردامانتوں کا حق ادا کرنے کی ہدایات
131	”وہ دین ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟“ (از روئے ارشادات و فرمودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
132	”وہ دین ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟“ (نماز کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں)
133	”وہ دین ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟“ (از روئے ارشادات و فرمودات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)
134	”وہ دین ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟“ (از روئے ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
135	استاد کا ادب و احترام اور بلند مرتبہ
136	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلہ رحمی کی تعلیم
137	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت شعاری
138	میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے
139	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کا مقام
140	نُصْرَتٌ بِالرُّعْبِ مَسْبُورَةٌ شَهْرٍ
141	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غصہ نہ کرنے کی تعلیم
142	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزروں، خادموں، ماتحتوں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک
143	فَاسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ
144	کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو!
145	اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ (سانسی اعتبار سے)
146	درد شریف کی اہمیت، فضیلت اور برکات
147	صحبت صالحین ایک کیسیا ہے

148	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور امین
149	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ محبوبیت
150	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمایوں سے حسن سلوک کی تعلیم
151	جلسہ ہائے سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تاریخ
152	أَصْحَابِي كَأَلْسُنِي وَمِثْلِي أَمَّا أَنَا فَمِثْلُكُمْ
153	میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے منعقد کرنے پر جماعت احمدیہ کا مؤقف اور غیروں کا طرز عمل (از حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
154	الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ
155	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم ”صدق و سچائی“ (از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
156	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو نصائح
157	افواہ سازی ایک بڑی خیانت ہے
158	عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائیں؟
159	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کو بچوں سے دوستانہ تعلق کی تعلیم
160	صحبتِ صالح تر اصلاحِ کند
161	شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم
162	سَلَمَانَ مِمَّا أَهْلَ الْبَيْتِ (حضرت سلمان فارسیؓ کی داستانِ حیات)
163	استغفار نہ کرنے والا بے ادب دہریہ ہے
164	عَشِيقُ مُحَمَّدٍ رِيَّةٌ
165	خطباتِ امام، ہمارے لیے ایک چراغ ہیں
166	آگ ہماری غلام، بلکہ غلاموں کی غلام ہے
167	”میں اپنے پیاروں کی نسبت“ ”تو ایک ہو ساری دنیا میں“

168	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد عالیہ (از تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)
169	ہم چھوٹی لجنہ، ناصرات الاحمدیہ کے فرانس
170	ہر اک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے
171	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد (خلفائے عظام کے ارشادات کی روشنی میں)
172	استاد محترم کو میرا سلام کہنا
173	وہ یوں بھی تھا طیب، وہ یوں بھی طیب تھا
174	پردہ، حکم خداوندی ہے
175	آج اسلامی پردہ کو اپنانے اور رواج دینے کی ضرورت
176	خلافت احمدیہ سے وابستگی اور استحکام میں مجلس انصار اللہ کا کردار (عہد انصار اللہ کی روشنی میں)
177	تعلیمی اداروں میں پردہ کا معیار (از ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
178	تبلیغ اور تجارت میں احمدی عورت کے پردے کا معیار (از ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ)
179	جنت والوں کا سلام
180	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے تناظر میں حضور ایدہ اللہ کی احمدی عورتوں کو نصح
181	نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے (صدقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام)
182	مناقب و فضائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
183	شادی بیاہ کے موقع پر پردے کا معیار
184	حجاب اتر تو پھر آنچل نہ ٹھہرا

185	عورتوں کے حقوق
186	احمدی خاتون کے فرائض
187	ایک مقدس عہد (حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد کا ایفائے عہد)
188	ہیلوین کا تہوار اور جماعت احمدیہ کی تعلیم
189	حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تناظر میں شادی بیاہ کے متعلق چند اسلامی تعلیمات
190	جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور ثبوتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے
191	”در شمین“ کو کثرت سے پڑھیں
192	صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق باللہ اور ذوق عبادت
193	قرآن اور سائنس (قرآن میں مستور پیشگوئیاں اور دورِ حاضر کی ایجادات کا ایمان افروز تذکرہ)
194	کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو
195	قرآن، جو اہرات کی تیشلی ہے
196	تلاوت قرآن کے آداب، قرآن کی زبان سے
197	روحانی حیات کا آبِ حیات (کتب حضرت مسیح موعودؑ کی اہمیت بزبان حضرت مسیح موعودؑ)
198	مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اہمیت، ضرورت اور برکات (از ارشادات خلفائے کرام)
199	کتب مسیح موعود علیہ السلام کی تاثیرات اپنوں اور غیروں کی نظر میں
200	مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اہمیت و برکات
201	دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدٍ هَكَذَا دُعَاءُ النَّبِيِّ لِأُمَّتِهِ
202	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سرسالی رشتہ داروں سے حسن سلوک

203	ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہے
204	بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں
205	مجلس انصار اللہ کا قیام اور مقاصد
206	وہی شاخ پھل لاسکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو
207	نشہ آور اشیاء کی ممانعت اور اس کے مُضرات
208	ذاتیں وجہ شرافت نہیں
209	سوشل میڈیا کی لت، ایک نشہ سے کم نہیں
210	”وہ قربت کا نشان ہو گا“ پیٹنگوئی مصلح موعود کی تیسری علامت
211	خانفائے احمدیت کی مقبول دعاؤں کے چند ایمان افروز واقعات
212	”وہ دل کا حلیم ہو گا“
213	تکبر بہت خطرناک بیماری ہے اور مسکینی تقویٰ کی ایک شاخ ہے
214	جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا
215	حضرت مصلح موعود کے متعلق قدیم مذہبی صحیفوں و خدائی نوشتوں کی بشارات
216	قرآن کریم کی عظمت اور اس کا مقام غیروں کی نظر میں
217	تحریک جدید کیا ہے اور اس کے ثمرات (دفتر ششم کا شکر الہی اور دعاؤں کے ساتھ آغاز)
218	ہمارا امتیازی نشان، خدمت خلق (حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں)
219	مطالبات تحریک جدید
220	دعوت الی اللہ کی اہمیت، عظمت اور برکات
221	”وہ علوم ظاہری... سے پر کیا جائے گا“
222	”وہ علوم... باطنی سے پر کیا جائے گا“
223	”وہ تین کو چار کرنے والا ہو گا“

224	(وہ) اسیروں کی رستگاری کا موجب ہو گا
225	حضرت مصلح موعودؑ کی ایک علامت۔ (وہ) اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو پیاریوں سے صاف کرے گا
226	ضرورت مذاہب اور احمدیت
227	نور آتا ہے نور
228	وہ سخت ذہین و فہیم ہو گا
229	وقف عارضی کی ضرورت و اہمیت
230	محبت الہی
231	”وقف جدید“ مقاصد اور برکات و ثمرات
232	خدا کا سایہ اُس کے سر پر ہو گا
233	وہ اولو العزم ہو گا
234	شخصیت پرستی اور اس کے مضر اثرات
235	کیوں عجب کرتے ہو گر میں آگیا ہو کر مسیح
236	آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے
237	خلفائے احمدیت کی بچوں سے شفقتیں اور حسن سلوک
238	آنحضور ﷺ کے جَوَامِعِ الْكَلِمِ
239	خدا اُس میں اپنی روح ڈالے گا
240	وہ بشیر الدولہ ہو گا، وہ عالم کباب ہو گا
241	لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ
242	کرسمس، اس کی تاریخ اور پس منظر
243	حضرت مصلح موعودؑ کے علمی کارنامے
244	حضرت مصلح موعودؑ کے دورِ خلافت میں بیرونی مشنوں کا قیام
245	وقف زندگی اور اُس کی اہمیت و برکات

246	اُمّ متین حضرت سیدہ مریم صدیقہ مرحومہ المعروف چھوٹی آپا
247	دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ ”پینگوئن“ مصلح موعود کی ایک علامت
248	صحبتِ صالحین (ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں)
249	مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلی
250	اسلام میں آزادی اظہار رائے کی حدود و قیود
251	رحمتہ للعالمین اور عالم اطفال
252	ہم نئے سال کے آغاز پر مبارکباد کیسے دیں
253	حضرت مصلح موعود کا نام فضل عمر کیوں؟
254	حضرت مسیح موعود کی احباب جماعت کو قیمتی وزریں نصائح
255	وہ ”شادی خان“ ہو گا
256	”میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں“
257	آلِ داؤد حضرت مصلح موعود کی حضرت سلیمان سے مماثلتیں
258	جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے
259	حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کی سیرت کے چند درخشندہ پہلو
260	حضرت مصلح موعود کی قرآنی خدمات (بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ)
261	(وہ) حُسن و احسان میں تیرا نظیر ہو گا
262	وہ جلد بڑھے گا
263	قرآن کریم کے محاسن، عظمت و خصوصیات
264	وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہو گا
265	اُس کا نزول جلالِ الہی کے ظہور کا موجب ہو گا

266	ملت کے اس فدائی پر رحمت خدا کرے
267	وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا
268	وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا
269	حضرت مصلح موعودؑ کا عشق رسولؐ
270	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی الی اللہ (کئی دور)
271	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی الی اللہ (مدنی دور)
272	پیٹنگوئی مصلح موعودؑ کا پس منظر
273	حضرت مصلح موعودؑ کی محبت الہی اور عبادات میں شغف
274	ہم یوم مصلح موعودؑ کیوں مناتے ہیں؟ (یوم مصلح موعودؑ منانے کے اغراض و مقاصد)
275	حضرت مصلح موعودؑ کے متعلق چند یادوں کا گلدستہ
276	حضرت مصلح موعودؑ کی بعض علامات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ کی زبانی
277	حضرت غلام رسول راجیکیؒ کے قبولیت دعا کے واقعات
278	ذیلی تنظیموں کا قیام اور حضرت مصلح موعودؑ کا عظیم کارنامہ
279	اے فضل عمر! تیرے اوصافِ کریمانہ
280	حضرت مصلح موعودؑ کے ذریعہ نئے آسمان اور نئی زمین کا قیام
281	حضرت مصلح موعودؑ کے چند روایا و کشف
282	تاجق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے
283	خدائے رحمان کی وحی بابت مصلح موعودؑ اور لیکچر ام کی پیٹنگوئی کا محاکمہ
284	قرآن کریم کی اہمیت و برکات از ارشادات خلفائے کرام

285	تلاوتِ قرآنِ کریم کی اہمیت و برکات از روئے ارشادات حضرت مسیح موعودؑ
286	ترجمہ قرآن کریم کی اہمیت
287	وہ فرزندِ دلہند اور گرامی ارجمند ہو گا
288	وہ قدرت کا نشان ہو گا
289	وہ نور ہو گا اور خدا کی رضامندی کے عطر سے مسح ہو گا
290	ذاتی اصلاح کے لئے عملی کوششیں
291	ذاتی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں
292	میں اچھے اخلاق کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتی ہوں
293	ذاتی اصلاح کا ذریعہ خشیتِ الہی
294	خلیفہ خدا بناتا ہے
295	اچھی بات کہو یا خاموش رہو
296	اچھے دوست بنانے کی اہمیت
297	ذاتی اصلاح کی اہمیت اور طریقے
298	اک قطرہ اُس کے فضل نے دریا بنا دیا
299	عبادِ صالحین کی صفات
300	میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا ہوں گا
301	نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
302	عبادِ صالحین کیسے بنا جائے
303	قرآنِ کریم میری زندگی کا نور ہے
304	ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟
305	خطبہ حجۃ الوداع۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ

306	اُسوہ رسولؐ، ہمارے لئے بہترین نمونہ
307	اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما
308	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازِ تبلیغ، ہمارے لئے مشعلِ راہ
309	تبلیغِ حق۔ اصلاحِ نفس کا ذریعہ
310	واقعہ معراج اور اسراء کی حقیقت
311	خلافت ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے
312	تبلیغ کے لیے حضرت مسیح موعودؑ کی تحریرات کا خزانہ
313	بعثتِ مسیح موعود اور تبلیغ۔ حضرت مسیح موعودؑ کی تحریرات کی رو سے
314	نظامِ وصیت اور صحابہ و تابعین مسیح موعودؑ کی قربانیاں
315	حضرت مسیح موعودؑ کی دعویٰ سے پہلے کی پاکیزہ اور مطہر زندگی
316	نظامِ وصیت۔ روحانی، اخلاقی اور مادی ترقیات کا ذریعہ
317	الہی صحیفوں، صلحائے اُمت کی پیشگوئیوں کے تناظر میں بعثتِ حضرت مسیح موعودؑ
318	احمدیت نے دنیا کو کیا دیا؟
319	جماعتی پروگرامز، میٹنگز اور اجلاسات میں شمولیت کی اہمیت و برکات
320	6 مارچ۔ حق و باطل میں آسمانی فیصلہ کا تاریخی دن۔ پیشگوئی بابت پنڈت لیکھرام
321	عالمی زندگی اور حضرت مسیح موعودؑ کا بہترین اُسوہ
322	ایک احمدی مسلم بچے کی ذمہ داریاں
323	حضرت مسیح موعودؑ کا بچوں سے پیار و شفقت اور اُن کی تعلیم و تربیت
324	حضرت مسیح موعودؑ کا بلند مقام و مرتبہ (از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
325	روزے۔ اسلام اور مذاہب میں۔ درس نمبر 1

326	ماہ شعبان کا رمضان سے تعلق اور اس کی تیاری - درس نمبر 2
327	مجدد اعظم - حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ
328	رمضان کا استقبال، اہمیت، فرضیت، برکات - درس نمبر 3
329	حضرت مسیح موعودؑ کا خلیہ اور اخلاق و عادات
330	رمضان کا انتساب براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے - درس نمبر 4
331	حضرت مسیح موعودؑ کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں
332	رمضان کا پیغام - درس نمبر 5
333	سیرت حضرت مسیح موعودؑ کے بعض شیریں واقعات
334	رمضان کا مہینہ پانچ بنیادی عبادتوں کا مجموعہ ہے - درس نمبر 6
335	حضرت مسیح موعودؑ کی مہمان نوازی
336	رمضان - جنت کے دروازے واکر نے کا مہینہ - درس نمبر 7
337	حضرت مسیح موعودؑ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی
338	روزے کی جزاء - درس نمبر 8
339	حضرت مسیح موعودؑ کے ننانوے اسمائے حسنی (از حضرت میر محمد اسماعیلؒ)
340	رمضان اور جھوٹ سے اجتناب - درس نمبر 9
341	حضرت مسیح موعودؑ کا صبر اور عفو و درگزر
342	سحری و افطاری کے آداب و برکات - درس نمبر 10
343	حضرت مسیح موعودؑ کا بیماروں اور مریضوں سے حسن سلوک
344	رمضان اور تلاوت قرآن کریم - درس نمبر 11
345	9 مارچ - اسلام کی فتح عظیم کا دن - حضرت مسیح موعودؑ کی دعوت مہابہ اور ڈوئی کی ہلاکت

346	رمضان اور نوافل لازم ملزوم ہیں۔ درس نمبر 12
347	دشمنوں کی ہلاکت اور ان کی ذلت و رسوائی (حضرت مسیح موعودؑ کی پیشگوئیوں کی روشنی میں)
348	رمضان اور دُعا۔ درس نمبر 13
349	حضرت مسیح موعودؑ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟
350	رمضان اور احتساب (محاسبہ نفس)۔ درس نمبر 14
351	حضرت مسیح موعودؑ کی قبولیت دعا کے عظیم الشان نشان
352	مسائل رمضان۔ درس نمبر 15
353	اسلام کے فتح نصیب جرنیل اغیار کی نظر میں
354	رمضان اور والدین کی اطاعت کا سبق۔ درس نمبر 16
355	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سفر آخرت
356	رمضان اور مالی قربانی (فدیہ، فطرانہ، صدقات و خیرات)۔ درس نمبر 17
357	مڈرزڈے (Mother's day)
358	رمضان اور حقوق العباد۔ درس نمبر 18
359	رمضان اور تقویٰ لازم ملزوم ہیں۔ درس نمبر 19
360	آخری عشرہ کی اہمیت و برکات۔ درس نمبر 20
361	لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکات۔ درس نمبر 21
362	رمضان۔ صبر، تحمل و برداشت کا درس دیتا ہے۔ درس نمبر 22
363	رمضان میں نیکیوں کی دوڑ۔ درس نمبر 23
364	رمضان۔ ظاہری و باطنی طہارت کا موجب ہے۔ درس نمبر 24
365	رمضان اور درود شریف کے فضائل۔ درس نمبر 25

366	رمضان اور جمعۃ الوداع - درس نمبر 26
367	رمضان اور توبہ و استغفار - درس نمبر 27
368	رمضان اور تحریک جدید، وقف جدید - درس نمبر 28
369	رمضان اور نظام و صییت میں شمولیت - درس نمبر 29
370	عید الفطر کے مسائل اور اس کا فلسفہ - درس نمبر 30
371	خلافت سے وابستگی - اصلاحِ نفس کا ذریعہ ہے - درس نمبر 31
372	شوآل کے روزے - درس نمبر 32
373	قرآن راہِ نجات ہے
374	انصار اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ
375	آیت استخفاف میں اطاعت کا سبق
376	نظامِ خلافت کی اہمیت، اطاعت و برکات (از ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
377	اطاعتِ خلافت کی اہمیت اور اس کی برکات
378	خلافتِ علی منہاج النبوت سے کیا مراد ہے؟
379	حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی محیر العقول یادداشت کے چند دلچسپ واقعات
380	اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو
381	قرآن روحانی و جسمانی بیماریوں کے لئے شفا کا موجب
382	دوسری قدرت یعنی خلافت احمدیہ دائی ہے
383	سچا رہنما قرآن شریف ہے
384	تاثراتِ قرآنیہ - قبولِ اسلام کے واقعات
385	چچی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف نے سکھائی

386	تقوٰی تمام دینی علوم کی کنجی ہے
387	خلفائے احمدیت کی اپنے اپنے پیشرو کی مثالی اطاعت
388	خلافت کی ضرورت و اہمیت (اغیار کی نظر میں)
389	ایٹلی جنگ بارے خلفاء کا دنیا کو واضح انتباہ
390	خلافتِ خامسہ اور استیقامِ خلافت
391	خلیفہ راشد اول۔ سیرت و سوانح حضرت ابو بکر صدیقؓ
392	خلیفہ راشد دوم۔ سیرت و سوانح حضرت عمر فاروقؓ
393	خلیفہ راشد سوم۔ سیرت و سوانح حضرت عثمان غنیؓ
394	خلیفہ راشد چہارم۔ سیرت و سوانح حضرت علی المرتضیٰؓ
395	منصبِ خلافت
396	خلیفہ بنا نا خدا تعالیٰ کا کام ہے
397	نظامِ خلافت کی اطاعت اور فرمانبرداری
398	خلافتِ ثانیہ اور استیقامِ خلافت
399	تحریکاتِ خلافتِ خامسہ
400	خلفائے احمدیت کی امتِ مسلمہ سے محبت اور تڑپ
401	حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ (سیرت و سوانح)
402	حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ (سیرت و سوانح)
403	حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ (سیرت و سوانح)
404	حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ (سیرت و سوانح)
405	حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ (سیرت و سوانح)

406	حضرت مسیح موعودؑ اور خلفاء کے جماعت پر احسانات
407	تأخلافت کی بنا د نیا میں ہو پھر استوار
408	خلافت اولیٰ اور استیقام خلافت
409	خلافت ثالثہ اور استیقام خلافت
410	خلافت رابعہ اور استیقام خلافت
411	انفاق فی سبیل اللہ از روئے اقوال رسولؐ
412	مالی قربانی کی اہمیت و برکات
413	باشرح چندوں کی ادائیگی کی اہمیت و برکات
414	لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے آئینہ میں - خلافت، رحمتِ خداوندی ہے
415	خلافت احمدیہ کی دوسری صدی کا عظیم عہد اور ہماری ذمہ داریاں
416	مالی قربانی - جماعت احمدیہ کا طرہ امتیاز ہے
417	مالی قربانی کی ترغیب (از ارشادات حضرت مسیح موعودؑ)
418	مالی قربانی کی اہمیت (از ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
419	لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايِنَةِ
420	قرآن میں مذکور جانوروں کے ناموں سے سورتوں میں اسباق
421	حیوانوں کی دنیا اور ان کے متعلق اسلامی تعلیم (احادیث کی روشنی میں)
422	انفاق فی سبیل اللہ از روئے قرآن
423	مالی قربانی کی اہمیت (از ارشادات خلفائے حضرت مسیح موعودؑ)

424	مالی قربانی کی اہمیت (ارشادات حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کی روشنی میں)
425	صحابہ مسیح موعودؑ کی مالی قربانیوں کے ایمان افروز واقعات
426	خلافتِ خامسہ میں مالی قربانیوں کے چند ایمان افروز واقعات
427	صدقہ و خیرات کی حقیقت اور برکات
428	صدقہ و خیرات کی اہمیت و برکات (از روئے احادیث)
429	زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کا نصاب
430	امثال القرآن
431	امثال الحدیث (تقریر نمبر 1)
432	امثال الاحادیث (تقریر نمبر 2)
433	خلفاء کی مالی تحریکات
434	مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
435	حج بیت اللہ اور اس کا فلسفہ
436	آئیں! حج اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے حضرت ”ابراہیم حنیف“ کی باتیں کریں!
437	عشرہ ذوالحجہ اور عید الاضحیٰ کی اہمیت و فضائل
438	اصلاحِ نفس
439	اُمّ المؤمنین حضرت سوہد بنت زمر رضی اللہ عنہا
440	اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا
441	اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا
442	اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا

443	خلافت کیا ہے اک فضل عظیم رب رحمان ہے
444	اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
445	اُمّ المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
446	حضرت مسیح موعودؑ کی نظر میں حضرت امام حسینؑ کا مقام و مرتبہ
447	اہل بیت اور صحابہؓ کی تعظیم و توقیر (بزبان مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ)
448	حضرت مسیح موعودؑ پر حضرت عیسیٰؑ، حضرت علیؑ اور امام حسینؑ کی توہین کا الزام اور اس کا جواب (بزبان مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ)
449	حضرت حسینؑ۔ جنت کا سردار
450	امام حسینؑ پر یزیدی حکومت کا فتویٰ کفر (ازار شادات حضرت خلیفۃ المسیح الثالثیؒ)
451	اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا
452	اُمّ المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
453	اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
454	اہل بیت سے حضرت مسیح موعودؑ کی محبت اور عشق
455	اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
456	حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا
457	ایک احمدی مسلم اور محرم الحرام (ازار شادات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ)
458	ماہ محرم اور حضرت امام حسینؑ کا مقام و مرتبہ (آنحضورؐ کے ارشادات کی روشنی میں)
459	ایک احمدی خادم کے اوصاف۔ پانچ بنیادی اخلاق

460	محرم الحرام۔ قرآن و احادیث اور اسلاف کی نظر سے
461	ماہ محرم اور مسائل و رسومات
462	محرم الحرام سے متعلقہ سوال و جواب (از حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ)
463	اسلامی سال نو کا آغاز اور ہماری ذمہ داریاں
464	اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ محرم الحرام
465	محرم الحرام اور چند دعائیں
466	محرم میں بکثرت درود شریف پڑھنے کی اہمیت اور برکات
467	اہل بیت کا مقام و مرتبہ (خلفائے نمسہ کے افاضات کی روشنی میں)
468	محرم اور ماتم کی حقیقت
469	قتل حسینؑ اصل میں مرگِ یزید ہے
470	محرم اور اس سے متعلقہ مناجاتی
471	سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
472	حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا المناک سانحہ اور واقعہ کربلا
473	واقعہ کربلا اور عظمت حسینؑ (حضرت مصلح موعودؑ کے ارشادات کی روشنی میں)
474	سیرت حضرت زینبؑ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
475	سیرت حضرت رقیہؑ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
476	سیرت حضرت اُمّ کلثومؑ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
477	اُمّ المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا
478	سیرت صاحبزادہ رسولؑ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ

اہل بیت سے محبت و عقیدت	479
سیرت و مناقب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	480
اہلیان گلستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم	481
ہمارے جلسہ ہائے سالانہ	482
جماعت احمدیہ کے عظیم الشان جلسہ سالانہ کی بنیادی اینٹ	483
جلسہ سالانہ اور عالمی بیعت	484
ام المومنین حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا	485
تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و فضیلت اور آداب	486
تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و برکات (ارشادات خلفائے احمدیت کی روشنی میں)	487
اسلام، محمد رسول اللہ کا درس ہے (حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ)	488
چھوٹی چیزیں، بڑے نتائج (قرآن کریم کے اعتبار سے)	489
چھوٹی چیزیں، بڑے نتائج (احادیث کی روشنی میں)	490
چھوٹی چیزیں، بڑے نتائج (حضرت مسیح موعودؑ کے کلمات کی روشنی میں)	491
چھوٹی چیزیں بڑے نتائج (کتابچہ ”کرنا کر“ کے اعتبار سے)	492
سیرت حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا	493
سیرت حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب	494

495	سیرت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ
496	سیرت حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد رضی اللہ عنہ
497	سیرت حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا
498	سیرت حضرت سیدہ امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا
499	اسلامی تہذیب و تمدن
500	سیرت حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
501	سیرت حضرت سیدہ امۃ الحی صاحبہ رضی اللہ عنہا (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
502	سیرت حضرت سیدہ مریم النساء بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
503	سیرت حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
504	سیرت حضرت سیدہ عزیزہ بیگم صاحبہ (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
505	سیرت حضرت سیدہ بشری بیگم صاحبہ (حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)
506	اسلامی تہذیب و تمدن (غیروں کے حقوق کے حوالہ سے)
507	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے حسن سلوک
508	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی قیدیوں سے حسن سلوک
509	صحابہ رضوان اللہ علیہم کا عشق رسولؐ
510	آنحضورؐ مہمان نوازی اور تواضع کے اخلاق کے آئینہ میں
511	خلفاء کرام کی خدام الاحمدیہ سے توقعات
512	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہؓ سے محبت
513	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اور تناول کرنے کے آداب
514	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ابن عبدالمطلب
515	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب

516	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خشیتِ الہی
517	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کار بن سہن اور روزمرہ کے معمولات
518	حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور قناعت (ازروئے افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ)
519	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت و سادگی
520	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق سے ہمدردی
521	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شخص دوست
522	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر
523	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت
524	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مزاج
525	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقلال
526	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا، کشف اور پیشگوئیاں
527	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نورِ مجسم
528	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات
529	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و فضائل اور عظمتیں (قرآن کریم کی روشنی میں)
530	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منتظم
531	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک عظیم قائد
532	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قدوسیت کے مظہر اتم (حضرت مسیح موعودؑ کے افاضات کی روشنی میں)

533	”یہ بزرگ میرا محمدؐ تھا اور اہل مجلس اس کے صحابہؓ تھے“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دلنشین منظر (ازافاضات حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ)
534	وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
535	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
536	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور منصف اعظم
537	1974ء کے غلط فیصلے پر خدائی پکڑ اور زوال کے پچاس سال
538	اصحاب الفیل
539	احمدی بچوں کا مقام اور ان کے فرائض
540	قرآن کریم کا عظیم الشان بلند مقام و مرتبہ
541	حضرت مسیح موعودؑ کے خلافت کے بارے میں اقتباسات
542	صحابیات رسولؐ کی قربانیوں کے چند ایمان افروز واقعات (بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ) (تقریر نمبر 1)
543	صحابیات رسولؐ کی قربانیوں کے چند ایمان افروز واقعات (بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ) (تقریر نمبر 2)
544	حضرت سیدہ سرور سلطان صاحبہؓ بیگم حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحبؒ
545	قرآن کریم کی دائمی حفاظت
546	احکام الہی کی حفاظت کرو تا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ (الحديث)
547	خلفائے خمسہ کی خدمات قرآن
548	آئیں! ہم اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں
549	اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا
550	تمام نصح قرآنی کا مغز اور کلید۔ دُعا

551	رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
552	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
553	تفسیر کبیر اور اس کے محاسن و خصوصیات
554	قرآن مجید ایک عظیم الشان معجزہ
555	قرآن کریم اور تیسری عالمی ایٹمی جنگ
556	تیسری عالمی ایٹمی جنگ (حضرت مسیح موعودؑ اور خلفائے کرام کی پیشگوئیاں و ارشادات کی روشنی میں)
557	تفسیر کبیر کے بارے اپنوں اور غیروں کی آراء
558	توکل علی اللہ
559	باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب
560	حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب والد ماجد حضرت مسیح موعودؑ
561	حضرت چراغ بی بی صاحبہ والدہ ماجدہ حضرت مسیح موعودؑ
562	سیرت حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ
563	سیرت حضرت نواب محمد عبد اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
564	حضرت بوزینب صاحبہ بیگم حضرت مرزا شریف احمد صاحبؒ
565	حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ
566	سیرت حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح الرابعؒ
567	سیرت حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ
568	حضرت صاحبزادی امۃ الحکیم بیگم صاحبہ
569	محترم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم
570	مکرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب المعروف ایم ایم احمد صاحب

571	حفظ قرآن کریم کی اہمیت و برکات
572	پانی کی ضرورت، اہمیت اور افادیت
573	خدا ایک پیارا خزانہ ہے
574	درست تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و ضرورت
575	أَمْرًا مَعْرُوفًا نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ
576	جماعت احمدیہ کا تعارف
577	سیرت حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ
578	حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب
579	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی اعظم (تقریر نمبر 1)
580	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی اعظم (تقریر نمبر 2)
581	حضرت صاحبزادی امۃ السلام صاحبہؓ
582	مکرمہ صاحبزادی امۃ الباسط صاحبہ المعروفہ بی بی باجھی
583	حضرت صاحبزادہ مرزا انس احمد صاحب
584	حضرت صاحبزادی امۃ النصیر صاحبہ
585	سیرت حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب
586	حضرت صاحبزادی امۃ العزیز بیگم صاحبہ
587	ہمسائے کے حقوق
588	رزقِ حلال اور اس کا انسانی اخلاق پر اثر
589	عزم و ہمت
590	حسدِ محمود

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحبؒ	591
قبولیت دعا کے مواقع، اوقات اور گھڑیاں (آنحضورؐ کے ارشادات کی روشنی میں)	592
آنحضرتؐ کی مقبول دعاؤں کے کرشمے (تقریر نمبر 1)	593
آنحضرتؐ کی مقبول دعاؤں کے کرشمے (تقریر نمبر 2)	594
سیرت حضرت میر ناصر نواب صاحبؒ	595
دُعا کی حقیقت، اہمیت اور برکات (از روئے تحریرات حضرت مسیح موعودؑ)	596
آداب دعا (بزبان مبارک حضرت مسیح موعودؑ)	597
دعاؤں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ	598
حضرت مسیح موعودؑ کے قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات	599
بد ظنی کھاگئی ہے سبھی رشتوں کو	600
سامانِ زیست	601
وَر تَاوَا	602
دوسروں کی تکلیف کا احساس	603
سیرت حضرت صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحبؒ	604
سیرت حضرت صاحبزادہ امۃ القیوم بیگم صاحبہ	605
مکرمہ صاحبزادہ امۃ القدوس صاحبہ اہلیہ مکرم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب	606
مکرم صاحبزادہ الحاج مرزا خورشید احمد صاحب	607
مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب	608
حضرت سیدہ صالحہ بیگم صاحبہ المعروفہ اُمّ داؤد	609

610	استاذی المکرم حضرت سید میر داؤد احمد صاحب
611	حضرت مسیح موعودؑ کی چند الہامی دعائیں
612	حضرت مسیح موعودؑ کی چند مقبول دعائیں (تقریر نمبر 1)
613	حضرت مسیح موعودؑ کی چند مقبول دعائیں (تقریر نمبر 2)
614	حضرت مسیح موعودؑ کی بعض احباب کو خصوصی دعاؤں کی ترغیب
615	حضرت مسیح موعودؑ کی بعض اہم مواقع کی دعائیں
616	اسلام کی اخلاقی تعلیمات
617	وقت کی پابندی کی اہمیت
618	بدظنی سے بچو
619	ہے کوئی مانگنے والا؟
620	مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب
621	مکرمہ صاحبزادی محمودہ بیگم صاحبہ اہلیہ صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب
622	مکرم سید داؤد مظفر شاہ صاحب
623	سیرت حضرت سید بیگم نانی جان رضی اللہ عنہا
624	مکرمہ سیدہ شوکت سلطانہ صاحبہ حرم اول حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحبؒ
625	مکرمہ سیدہ امۃ اللطیف صاحبہ حرم ثانی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحبؒ
626	مکرم نواب عباس احمد خان صاحب
627	مکرم سید میر مسعود احمد صاحب
628	محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب شہید
629	مکرم سید طالع احمد صاحب شہید
630	سیدہ بشریٰ بیگم صاحبہ بنت حضرت میر محمد اسحاق صاحبؒ

631	”تیری عاجزانہ راہیں اُس کو پسند آئیں“
632	مدینہ منورہ کی پہلی دو مساجد (مسجدِ قبا اور مسجدِ نبوی)
633	رحمانِ خدا اور اُس کے بندے
634	مدرسہ میرا، میری ذات میں ہے
635	سفر کے آداب اور اسلامی تعلیمات
636	ذاتی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں
637	فَاسْتَبِقُوا الْعَيْرَاتِ
638	خدمتِ خلقِ انسان دوستی کا دوسرا نام ہے
639	دور ثانی کے اصحابِ صُفّہ
640	محترمہ صاحبزادی امۃ الرشید صاحبہ بنتِ حضرت مصلحِ موعودؑ
641	محترم میاں عبد الرحیم احمد صاحب
642	جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو
643	صبر و استقامت اور اس کی اہمیت و برکات
644	غَضِّ بَصْمَا
645	خیالات کی ہجرت
646	ہم واقفین / واقفاتِ نوا مجھے مقرر کیسے بن سکتے ہیں؟
647	مکرم مرزا مجید احمد صاحب
648	مکرمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم مرزا مجید احمد صاحب
649	محترمہ صاحبزادی امۃ المتین صاحبہ بنتِ حضرت مصلحِ موعودؑ
650	محترم پیر معین الدین صاحب
651	آگ ہے پر آگ سے وہ سب بجائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالجانب سے پیار

652	بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے
653	پردہ پوشی۔ چشم پوشی
654	امن و سلامتی کے سفیر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ
655	کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں
656	زار بھی ہو گا تو ہو گا اُس گھڑی باحالِ زار
657	شیطان کی حقیقت اور کردار
658	ہر اک نیکی کی جڑ یہ اُلقا ہے
659	سادگی، قناعت اور زُہد
660	ایثار کے نمونے
661	وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم
662	زندہ خدا سے دل کو لگاتے تو خوب تھا
663	نماز ایک سواری ہے
664	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ترجمے (ہر سورت کا مجدد ترجمہ)
665	مکرم صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب
666	محترمہ طاہرہ حنیف صاحبہ اہلیہ مکرم صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب
667	مکرمہ صاحبزادی امۃ الوحید بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب
668	مکرمہ صاحبزادی آمنہ طیبہ صاحبہ اہلیہ مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب
669	محترمہ سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ بنت حضرت میر محمد اسحاق صاحبؒ
670	مکرم صاحبزادہ مرزا رشید احمد صاحب
671	صاحبزادی امۃ الودود بیگم صاحبہ بنت حضرت مرزا شریف احمد صاحبؒ
672	مکرم نواب مودود احمد خان صاحب

673	مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب
674	مکرم صاحبزادہ مرزا نعیم احمد صاحب اور اہلیہ صاحبزادی امۃ المؤمن صاحبہ
675	مکرم بریگیڈئیر ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب اور اہلیہ محترمہ صاحبزادی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ
676	مکرم صاحبزادہ مرزا خلیل احمد صاحب اور اہلیہ محترمہ اسماء طاہرہ صاحبہ
677	مکرم صاحبزادہ مرزا انظر احمد صاحب اور اہلیہ محترمہ قیصرہ خانم صاحبہ
678	مکرمہ صاحبزادی امۃ الحی در ثمنین صاحبہ
679	مکرمہ سیدہ امۃ الرقیق پاشا صاحبہ و مکرم سید حضرت اللہ پاشا صاحب
680	مکرم مرزا انور احمد صاحب اور اہلیہ محترمہ صاحبزادی صبیحہ امینہ بیگم صاحبہ
681	محترم صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب اور زوجہ محترمہ سیدہ امۃ السبع صاحبہ
682	محترم صاحبزادہ مرزا رفیق احمد صاحب اور زوجہ محترمہ سیدہ فریدہ بیگم صاحبہ
683	محترم صاحبزادہ مرزا حمید احمد صاحب
684	محترم صاحبزادہ مرزا حفیظ احمد صاحب اور زوجہ محترمہ سیدہ تنویر الاسلام صاحبہ
685	محترمہ صاحبزادی امۃ الشکور صاحبہ
686	محترم چوہدری ناصر محمد سیال صاحب
687	قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے (تقریر نمبر 1)
688	قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے (تقریر نمبر 2)
689	ہستی باری تعالیٰ از روئے قرآن پاک (تقریر نمبر 1)
690	محترم صاحبزادہ کرنل مرزا اود احمد صاحب اور زوجہ محترمہ صاحبزادی ذکیہ بیگم صاحبہ
691	محترم صاحبزادہ مرزا منیر احمد صاحب اور زوجہ محترمہ طاہرہ صدیقہ بیگم صاحبہ
692	محترم صاحبزادہ مرزا ادریس احمد صاحب
693	اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے

694	محترم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب اور زوجہ محترمہ صاحبزادی سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ
695	محترم نواب مصطفیٰ احمد خان صاحب اور زوجہ محترمہ صاحبزادی امۃ الحجیب صاحبہ
696	محترمہ صاحبزادی امۃ الباری صاحبہ اور محترم نواب عباس احمد خان صاحب
697	چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب
698	رمضان کی تیاری اسوہ رسولؐ کی روشنی میں
699	تعلق باللہ کی اہمیت اور برکات
700	دنیا میں رہنے کے لئے زوج و صحت افزاء مقام ”اپنی اوقات“
701	رمضان اور روحانی ہجرت
702	رمضان اور رویت ہلال (درس نمبر 1)
703	صبر بھی ایک عبادت ہے (صبر اور عبادت، رمضان کی دو خوبصورتیاں ہیں)
704	رمضان کے بارے میں قرآنی احکام (درس نمبر 2)
705	رمضان میں روحانی پیدائش اور روحانی اولاد
706	رمضان اور ہمارا مقصد پیدائش (درس نمبر 3)
707	رمضان اور اصلاح و تطہیر نفس
708	رمضان بطور ایک مہمان (درس نمبر 4)
709	قرآن کریم ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“
710	رمضان اور روحانی ہجرت (درس نمبر 5)
711	آداب گفتگو
712	رمضان اور خشوع و خضوع (درس نمبر 6)
713	رمضان اور روحانی موسم بہار

714	رمضان کے فضائل (درس نمبر 7)
715	اللہ ہمارا بہترین دوست ہے
716	رمضان اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ (درس نمبر 8)
717	رمضان اور ذَا بَقَّةِ الْمَوْتِ
718	رمضان کا پیغام (درس نمبر 9)
719	رمضان اور سریہ عبد اللہ بن عتیک
720	رمضان، دعاؤں کا مہینہ (درس نمبر 10)
721	رمضان میں ہونے والی دو بابرکت شادیاں
722	رمضان اور محفوظ قلعے میں داخل کرنے والی دعائیں (درس نمبر 11)
723	رمضان اور مَنْ كَامَرَكَ صَافِ كَر
724	روزہ اور مریض اور مسافر (درس نمبر 12)
725	رمضان اور کسوف و خسوف کا نشان
726	روزہ اور عورتوں کے متعلق مسائل (درس نمبر 13)
727	كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبِينَ أَنَا وَرُسُلِي
728	رمضان المبارک کے مسائل (درس نمبر 14)
729	رمضان اور خدمت و اطاعت والدین
730	رمضان میں ایک پارہ روزانہ ضرور پڑھیں (درس نمبر 15)
731	رمضان میں رحمت، مغفرت و بخشش کی مناسبت سے چند دعائیں
732	رمضان اور ”الغرد“ سے اجتناب (درس نمبر 16)
733	رمضان اور غزوہ بدر
734	رمضان اور تجلی قلب (درس نمبر 17)

735	اَلْوَلَدُ بِمَا لَا يَرْبِيهِ
736	رمضان۔ تصوف اور ولایت کی جان (درس نمبر 18)
737	اسلام میں عورت کا مقام
738	رمضان اور اعتکاف (درس نمبر 19)
739	رمضان اور فتح مکہ
740	ارکان اسلام اور رمضان کے روزے (درس نمبر 20)
741	رمضان کی اہمیت، مثالوں سے (تقریر نمبر 1)
742	رمضان اور نماز تہجد و نوافل (درس نمبر 21)
743	رمضان کی اہمیت، مثالوں سے (تقریر نمبر 2)
744	رمضان اور اطاعتِ خلافت کا سبق (درس نمبر 22)
745	حضرت مسیح موعودؑ کا صبر و تحمل، ضبطِ نفس اور قوتِ برداشت
746	رمضان اور رسومات (درس نمبر 23)
747	ذکرِ الہی، اطمینانِ قلب کا موجب ہے
748	رمضان سے متعلقہ بنیادی مسائل کے جوابات (حضورِ انور ایدہ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں) (1) (درس نمبر 24)
749	رمضان کے روزوں سے متعلقہ چند مسائل
750	رمضان سے متعلقہ بنیادی مسائل کے جوابات (حضورِ انور ایدہ اللہ کے ارشادات کی روشنی میں) (2) (درس نمبر 25)
751	حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ کے فتاویٰ بابت روزے
752	رمضان اور حسن معاشرت (درس نمبر 26)
753	اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ
754	رمضان اور مساجد کے آداب (درس نمبر 27)

اعتدال پسندی	755
رمضان اور مجالس کے آداب (درس نمبر 28)	756
برداشت اور صبر و حوصلہ کی اقسام	757
رمضان کے سبق کو سارا سال جاری رکھیں (درس نمبر 29)	758
شہید کی جو موت ہے، قوم کی حیات ہے	759
رمضان اور الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ (درس نمبر 30)	760
والدین کے تقویٰ کے اولاد پر اثرات	761
کشتی نوح میں درج نصاب کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرو (تقریر نمبر 1)	762
کشتی نوح میں درج نصاب کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرو (تقریر نمبر 2)	763
کل چلی تھی جو لیکھوپ تیغ دعا	764
پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار	765
حضرت حرمت بی بی صاحبہ المعروف تائی صاحبہ	766
محترم صاحبزادہ مرزا سعید احمد صاحب	767
محترمہ سیدہ امۃ اللہ بیگم صاحبہ اور محترم پیر صلاح الدین صاحب	768
محترم سید محمد احمد صاحب	769
محترمہ سیدہ امۃ الہادی صاحبہ اور محترم کرئل پیر ضیاء الدین صاحب	770
محترم سید مولود احمد صاحب	771
محترم ڈاکٹر سید تاثیر مجتبیٰ صاحب	772
محترمہ صاحبزادی امۃ النور صاحبہ المعروف مسزنوشی	773
حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحبؒ	774
حضرت سیدہ سعیدۃ النساء صاحبہؒ اہلیہ حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحبؒ	775

776	ایمان بالغیب کیوں ضروری ہے؟
777	”میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں“ (مسج موعود)
778	صحابیات رسولؐ کی قربانیاں
779	مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو چھلایا
780	بزدلوں کو شرم و صدق و صفا و لیکن میفرمائے بر مصطفیٰ
781	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 1)
782	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 2)
783	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 3)
784	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 4)
785	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 5)
786	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 6)
787	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 7)
788	صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 8)
789	وہی اُس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں
790	”زکریا والی توبہ کرو“
791	سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي كَانَادِرًا نَابِ نَسْخِ
792	پیوستہ رہ شجر سے اُمید بہار رکھ
793	پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی
794	عشق الہی سے منہ پر ولیاں ایسہ نشانی
795	قرآن کی رمضان سے نسبت، تعلق اور اس کی اہمیت و برکات
796	”مشاہدات“ کے دو سال

797	خلافت از افاضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
798	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ
799	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ
800	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ
801	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ
802	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ
803	خلافت از افاضات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ
804	بزرگانِ اُمت کے نزدیک خلافت کی اہمیت
805	مقامِ خلافت کی عظمت اور اہمیت
806	تحریکات حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ
807	تحریکات حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ
808	تحریکات حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ
809	تحریکات حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ
810	تحریکات حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ (تقریر نمبر 2)
811	امامِ وقت سے اک رشیدیہ صدق و وفار کھنا
812	دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی (تقریر نمبر 1 بابت خلافتِ اولیٰ)
813	دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی (تقریر نمبر 2 بابت خلافتِ ثانیہ)
814	دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی (تقریر نمبر 3 بابت خلافتِ ثالثہ و رابعہ)
815	دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی (تقریر نمبر 4 بابت خلافتِ خامسہ)
816	خلافتِ احمدیہ کے دوران جماعتی ترقیات
817	خلفاء کے ادوار میں جماعتی ترقیات و فتوحات (خلافتِ اولیٰ، ثانیہ و ثالثہ کے ادوار) (تقریر نمبر 1)

818	خلفاء کے ادوار میں جماعتی ترقیات و فتوحات (خلافتِ رابعہ اور خامسہ میں الہی تائیدات، فتوحات و ترقیات) (تقریر نمبر 2)
819	خلافت، روحانی ترقیات و فیضان کا ذریعہ
820	خلافتِ حقہ اور اشاراتِ الہیہ (خلافتِ اولیٰ) (تقریر نمبر 1)
821	خلافتِ حقہ اور اشاراتِ الہیہ (خلافتِ ثانیہ) (تقریر نمبر 2)
822	خلافتِ حقہ اور اشاراتِ الہیہ (خلافتِ ثالثہ) (تقریر نمبر 3)
823	خلافتِ حقہ اور اشاراتِ الہیہ (خلافتِ رابعہ) (تقریر نمبر 4)
824	خلافتِ حقہ اور اشاراتِ الہیہ (خلافتِ خامسہ) (تقریر نمبر 5)
825	”وہ (خلافت) دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا“ (دائمی خلافت کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ اور خلفاء کے ارشادات)
826	خلافت کے فیوض و برکات (تقریر نمبر 2)
827	خلافت کے ذریعہ توحید کا قیام
828	خلافت کے ذریعہ وحدتِ قومی
829	استحکامِ خلافت اور ہماری ذمہ داریاں
830	نظامِ خلافت اور زکوٰۃ
831	خلافت، پہرہ اور امام کی حفاظت
832	خلافتِ راشدہ کے خلاف سازشوں کے المناک اثرات
833	خلافتِ راشدہ کے خلاف سازشیں (خلافتِ اولیٰ و ثانیہ کا ذکر) (تقریر نمبر 1)
834	خلافتِ راشدہ کے خلاف سازشیں (خلافتِ ثالثہ و رابعہ کا تذکرہ) (تقریر نمبر 2)
835	خلافتِ احمدیہ کے خلاف سازشوں کا بد انجام (خلافتِ ثانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ذکر)
836	خلافتِ احمدیہ کے خلاف سازشوں کا بد انجام (خلافتِ ثالثہ اور رابعہ کا ذکر)

837	خلافت کی اساس، اطاعت کے رُوح پرور واقعات
838	صحابہ سے ملاجب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 9)
839	صحابہ سے ملاجب مجھ کو پایا (تقریر نمبر 10)
840	”اُٹھو! نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں“ (الہام حضرت مسیح موعودؑ)
841	اسلام میں قیام توحید کی اہمیت
842	پھولوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا (تقریر نمبر 1)
843	پھولوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا (تقریر نمبر 2)
844	حضور اکرمؐ کے ارفع و اعلیٰ اخلاق کی روشنی میں بنیادی اخلاق کی تعلیم (خلاصہ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ)
845	اَلْمَسْجِدُ مَكَانِي (مسیح موعودؑ) مسجد میرا مکان ہے
846	وَالصَّالِحُونَ اِخْوَانِي (مسیح موعودؑ) صالحین میرے بھائی ہیں
847	ذِكْرُ اللّٰهِ صَالِي (مسیح موعودؑ) یاد الہی میری دولت ہے
848	وَحَلَقَ اللّٰهُ عِيَالِي (مسیح موعودؑ) مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے
849	اَلْحَلَقُ عِيَالُ اللّٰهِ (سیرت رسولؐ کے آئینہ میں)
850	سادہ سگت (چند مثالوں کی روشنی میں)
851	صحبتِ صالحین کے ذرائع
852	صحبتِ صالحین کی اہمیت (خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں)
853	حضرت مسیح موعودؑ کے آنے کی غرض ”تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں“ (تقریر نمبر 1)
854	حضرت مسیح موعودؑ کے آنے کی غرض ”تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں“ (تقریر نمبر 2)
855	ارشادات حضرت مسیح موعودؑ کی رُوسے اخلاقی بُرائیوں سے بچنے کی نصائح

856	صحابہ رسول کا عشق رسول
857	میری آل (حضرت محمد)
858	الْبَعْرِفَةُ زَائِسُ مَالِي (حضرت محمد) معرفت میرا سرمایہ ہے (تقریر نمبر 1)
859	الْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي (حضرت محمد) عقل میرے دین و ایمان کی جزو ہے (تقریر نمبر 2)
860	الْحُبُّ أَسَاسِي (حضرت محمد) محبت میری اساس ہے (تقریر نمبر 3)
861	الشُّوقُ مَرْكَبِي وَشَوْقِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ (حضرت محمد) شوق میری سواری ہے اور میرا شوق اپنے رب عز و جل کی طرف ہے (تقریر نمبر 4)
862	ذِكْرُ اللَّهِ أَنْبَسِي وَتَمَرَّةٌ فَوَادِي فِي ذِكْرِهِ (حضرت محمد) ذکر الہی میرا مونس اور میرے دل کا پھل ہے (تقریر نمبر 5)
863	الْشِّقَّةُ كُنْزِي (حضرت محمد) و شوق میرا خزانہ ہے (تقریر نمبر 6)
864	الْحُزْنُ رَفِيقِي وَعَنِي لِأَجْلِ أُمَّتِي (حضرت محمد) غم میرا رفیق ہے اور میرا غم میری امت کے لئے ہے (تقریر نمبر 7)
865	الْعِلْمُ سَلَاحِي (حضرت محمد) علم میرا ہتھیار ہے (تقریر نمبر 8)
866	الصَّبْرُ دَابِي (حضرت محمد) صبر میری چادر ہے (تقریر نمبر 9)
867	الرِّضَاءُ غَنِيمَتِي (حضرت محمد) رضامیری غنیمت ہے (تقریر نمبر 10)

868	وَالْعَجْزُ فَخْرِي (حضرت محمدؐ) عاجزی میرا فخر ہے (تقریر نمبر 11)
869	أَلَدُّهُدُ حِرْفَتِي (حضرت محمدؐ) زُہد میرا پیشہ ہے (تقریر نمبر 12)
870	أَلْيَقِينُ مِثْرِي قُوْتِي (حضرت محمدؐ) یقین میری قوت ہے (تقریر نمبر 13)
871	أَلْصِدْقُ شَفِيعَتِي (حضرت محمدؐ) صدق میرا شفیع ہے (تقریر نمبر 14)
872	أَلطَّاعَةُ حَسْبِي (حضرت محمدؐ) اطاعتِ الہی میرا حسب ہے (تقریر نمبر 15)
873	أَلْجِهَادُ خُلُقِي (حضرت محمدؐ) جہاد میرا خلق ہے (تقریر نمبر 16)
874	قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (حضرت محمدؐ) نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے (تقریر نمبر 17)
875	حُضُورًا! مِثْلُ اللَّهِ أَوْ أَسْكَارِ سَوَالِ الْكُفْرِ جُحُودًا آيَا هَوَى (حضرت ابو بکرؓ)
876	نُصْرَتُ بِالرُّعْبِ مَسْبُورَةٌ شَهْرِي (حضرت محمدؐ) مجھے ایک مہینے کی مسافت کے برابر رعب سے نوازا ہے (تقریر نمبر 1)
877	جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (حضرت محمدؐ) ساری زمین میرے لئے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے (تقریر نمبر 2)
878	أَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي (حضرت محمدؐ) مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی (تقریر نمبر 3)
879	بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً (حضرت محمدؐ) مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے (تقریر نمبر 4)

880	أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (حضرت محمدؐ) مجھے جو امح الکلم دیئے گئے ہیں (تقریر نمبر 5)
881	أُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ (حضرت محمدؐ) غنیمتیں میرے لئے جائز کی گئی ہیں (تقریر نمبر 6)
882	حُخِّمَ بِي النَّسِيُّونَ (حضرت محمدؐ) میرے ذریعہ نبیوں پر مہر لگائی گئی ہے (تقریر نمبر 7)
883	أَتَيْتُ بِمَقَاتِلِ حَيِّ بْنِ الْأَدْحِصِ (حضرت محمدؐ) مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں (تقریر نمبر 8)
884	جُعِلَ التَّرَابُ لِي طَهُورًا (حضرت محمدؐ) مٹی کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا (تقریر نمبر 9)
885	جُعِلَتْ أُمَّتِي حَيِّزًا أُمَّمٍ (حضرت محمدؐ) میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا ہے (تقریر نمبر 10)
886	سَبَّيْتُ أَحْمَدَ (حضرت محمدؐ) میرا نام احمد رکھا گیا (تقریر نمبر 11)
887	أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ (حضرت محمدؐ) میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں (تقریر نمبر 12)
888	جُعِلَتْ صُغُوفُنَا كَصُغُوفِ الْمَلَائِكَةِ (حضرت محمدؐ) ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی رکھی گئی ہیں (تقریر نمبر 13)
889	أَنَا سَيِّدُ وَكَدِ آدَمَ رِيْزَمَةَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ (حضرت محمدؐ) میں قیامت کے روز اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی گھمنڈ یا فخر نہیں (تقریر نمبر 14)
890	أَنَا حَامِلُ لِيَوَاءِ الْحَنْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حضرت محمدؐ) میں قیامت کے روز حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا (تقریر نمبر 15)

891	ہمارے دل کی زباں ہیں جلے
892	إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ (حضرت محمدؐ) میں یقیناً تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں (تقریر نمبر 16)
893	وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ (حضرت محمدؐ) اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا (تقریر نمبر 17)
894	عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے
895	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ (حضرت مسیح موعودؑ کے ارشادات کی روشنی میں) (تقریر نمبر 1)
896	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ (حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی تفسیر کے آئینہ میں) (تقریر نمبر 2)
897	الکوثر، خیر کثیر کے معانی (حضرت مصلح موعودؑ کے ارشادات کی روشنی میں) (تقریر نمبر 3)
898	الْكَوْثُرُ - خَيْرِ كَثِيرٍ أَمْ الْقُرْآنُ (الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ) (تقریر نمبر 4)
899	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ - الْكَوْثُرُ - خَيْرِ كَثِيرٍ بَدْرِيَّةٍ حضرت مسیح موعودؑ (تقریر نمبر 5)
900	مجھ پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی (حضرت محمدؐ) (تقریر نمبر 6)
901	لَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ حَيَّيْنِ لَمَا وَسَعَهُمَا إِلَّا اتَّبَاعِي (حضرت محمدؐ) اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا
902	أَنَا اللَّيْسَةُ وَأَنَا حَاتِمَةُ النَّبِيِّينَ (حضرت محمدؐ) میں وہ اینٹ ہوں اور میں حاتم النبیین ہوں
903	آنحضرتؐ کی سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ تک رسائی اور جنت کا دیکھنا (معراج مصطفیٰؐ کا شہرہ آفاق سفر)

904	فَأَمَّا بُنْتُنَا فَمَا أَتَتْهُمُ (حضرت محمدؐ) میں نے ان سب انبیائے کرام علیہم السلام کی امامت کرائی (واقعہ اسراء)
905	إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (حضرت محمدؐ) مجھے اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہے (تقریر نمبر 1)
906	إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (حضرت محمدؐ) مجھے اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہے (ارشادات حضرت مسیح موعودؑ کی روشنی میں) (تقریر نمبر 2)
907	لَوْلَا كَمَا خَلَقْتُ الْإِنْفِلَاقَ أَكْرَمْتَهُمْ هُوَ تَوَمَّيْنِ كَأَسَاتِ كِ كُوْنِي بِيْجِيْزِيْدِيْ كَرْتَا
908	آنحضورؐ کی چند مزید فضیلتیں
909	تُو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں (حضرت مصلح موعودؑ کا اللہ سے خطاب)
910	انسان اور کردار
911	ULEZ اور انسانی زندگی
912	ہم ایک ہیں!
913	جماعت احمدیہ اور خدمتِ انسانیت
914	”خادمِ نوعِ انسان“ (حضرت مسیح موعود علیہ السلام)
915	يُفِيضُ الْبِنَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ یعنی آنے والا مسیح مال اٹائے گا لیکن لوگ اُس مال کو قبول نہیں کریں گے
916	انسان کی انسانیت کا تقاضا - اپنے بھائی سے مروت، احسان کا سلوک کرے
917	محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں (پس منظر اور ضرورت)
918	حفاظت و سیکورٹی کی ضرورت، اہمیت اور اس کے فوائد

919	بہتان طرازی اور الزام تراشی۔ ایک گناہ کبیرہ
920	حضرت مسیح موعودؑ کا جادوئی روحانی انقلاب
921	قیام نماز۔ حصول الذبیر کا ذریعہ (مسیح موعودؑ)
922	جدید ایجادات کا درست اور بر محل استعمال
923	جدید ایجادات کے منفی اثرات و مضمرات
924	صحافت اور ذرائع ابلاغ کی ضرورت اور اہمیت
925	جماعت احمدیہ کی صحافت اور روایتی صحافت میں فرق
926	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پس (اے جن و انس!) تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے
927	ہجرت بھی ایک سنتِ حَبِیْبَاتُ الْاَنَاہِ ہے
928	بنی نوع انسان سے ہمدردی اور خدمت انسانیت (حضرت مسیح موعودؑ کے پاک کلمات اور ارشادات کے آئینہ میں) (تقریر نمبر 1)
929	بنی نوع انسان سے ہمدردی اور خدمت انسانیت (حضرت مسیح موعودؑ کے پاک کلمات اور ارشادات کے آئینہ میں) (تقریر نمبر 2)
930	بنی نوع انسان سے ہمدردی اور خدمت انسانیت (حضرت مسیح موعودؑ کے پاک کلمات اور ارشادات کے آئینہ میں) (تقریر نمبر 3)
931	آج کا نوجوان بطور ایک اُمید کے
932	اِسْتِیْنَاَسَ کیا ہے اور اس کے آداب
933	قیام امن کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ کی عالمگیر مساعی
934	وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ
935	قرآن کریم، آنحضرتؐ کی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے
936	اولاد دین کی پہلوان ہو (سیرت حضرت مسیح موعودؑ کے تناظر میں)

اسلامی تہوار اور تقریبات	937
معاشرتی اور اخلاقی زوال کے اسباب	938
سُنو! اب وقتِ توحیدِ اَنتُمْ ہے	939
ہستی باری تعالیٰ از روئے قرآن کریم (تقریر نمبر 2)	940
ہستی باری تعالیٰ، کتب مقدّسہ کی روشنی میں	941
عقلی دلائل سے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت	942
ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں سائنسی دلائل (تقریر نمبر 1)	943
سائنس کی رو سے ہستی باری تعالیٰ (تقریر نمبر 2)	944
ہستی باری تعالیٰ پر سائنسی دلائل (تقریر نمبر 3)	945
ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے	946
قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا	947
قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا	948
(خلاصہ خطبہ جمعہ حضور انور ایدہ اللہ فرمودہ 21/جون 2013ء) (تقریر نمبر 2)	
احترامِ انسانیت، خدمتِ انسانیت اور شرفِ انسانیت (از روئے قرآن کریم)	949
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں احترامِ انسانیت، شرفِ انسانیت اور خدمتِ انسانیت	950
تُوْهِبَالانِ جَمَاعَتِ	951
نازک ترین معاملہ زبان سے ہے (مسیح موعودؑ)	952
مساجد کے آداب	953
فضول چیزوں سے اجتناب	954
آؤ بچو! لغویات سے کیسے بچیں؟	955

کھانے کے آداب	956
غصہ پر قابو پانا	957
اسلام کا ایک بنیادی وصف - سچائی	958
”انسان ہونا، ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے“	959
بدتر بنوہر ایک سے اپنے خیال میں (تقریر نمبر 2)	960
بدتر بنوہر ایک سے اپنے خیال میں (تقریر نمبر 3)	961
”استغفار کلید ترقیاتِ روحانی ہے“ (مسح موعودہ)	962
اسلامی مطمح نظر	963
ترہیتِ اولاد	964
مکتبہ عشق	965
خدا کی ہستی اور انبیاء کی غیبی تائیدات	966
کائنات اور ایک خدا	967
”قبولیتِ دعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے“ (مسح موعودہ)	968
آخری بیانات	969
زباں کی کھیتی	970
علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب!	971
عہد شکنی نہ کرو	972
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ	973
گھریلو جھگڑوں و عائلی تنازعات کی وجہ۔ جھوٹ اور قولِ زور	974
میڈیا کے ذریعہ جھوٹ، لغویات کی تشہیر	975
سچے احمدی کی ماں۔ زندہ باد	976

اسپورٹس مین سپرٹ	977
ہمیشہ مسکراتے رہو	978
لَا تَأْخُذُكُمُ الْعَسَنَةُ وَلَا نَوْمٌ	979
ہمسایوں سے حسن سلوک	980
اطاعت کے ذریعہ پر آگندہ موتیوں کا اجتماع	981
نور الہی، نور مصطفویٰ اور نور قرآن احمدی مسلمانوں کا ورثہ ہے	982
”میرے نور الدین کو“	983
ہُن میں چھ مہینے لئی تیرا رب نہیں رہیا؟	984
”خدا تعالیٰ کہتے ہیں میں بڑی برکات ہیں“	985
وجود باری تعالیٰ پر دس دلائل (از حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ) (قسط نمبر 1)	986
وجود باری تعالیٰ پر دس دلائل (از حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ) (قسط نمبر 2)	987
”صحت۔ خدمت اور صبر“	988
”زمین کے حقیقی وارث“	989
چھ ارکانِ ایمان	990
پہلی شرط بیعت	991
دوسری شرط بیعت	992
تیسری شرط بیعت	993
چوتھی شرط بیعت	994
پانچویں شرط بیعت	995

چھٹی شرط بیعت	996
ساتویں شرط بیعت	997
آٹھویں شرط بیعت	998
نویں شرط بیعت	999
دسویں شرط بیعت	1000



مشادات

## یکے از آن لائن مطبوعات ”مشاہدات“

- 1- جماعت احمدیہ و ذیلی تنظیموں کے عہد اور ہماری ذمہ داریاں
- 2- تقاریر سیرت و شمائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
- 3- 100 تقاریر برائے ممبرات لجنہ اماء اللہ بر موقع صد سالہ جوہلی
- 4- 52 علامات 52 تقاریر بابت پیشگوئی مصلح موعود
- 5- 50 تقاریر بر موقع یوم مسیح موعود (جلد اول)
- 6- 30 دروس بابت رمضان المبارک 2024ء (حصہ اول)
- 7- 50 تقاریر بر موقع یوم خلافت (حصہ اول)
- 8- 25 تقاریر بابت انفاق فی سبیل اللہ
- 9- 65 تقاریر برائے انصار اللہ
- 10- 20 تقاریر بابت محرم الحرام
- 11- 25 تقاریر بابت اہل بیت رسول اور ان کا مقام و مرتبہ
- 12- 50 تقاریر بابت سیرت و شمائل حضرت محمد ﷺ (حصہ دوم)
- 13- 70 تقاریر برائے خدام الاحمدیہ
- 14- 50 تقاریر بابت قرآن کریم (حصہ اول)
- 15- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (حصہ اول)
- 16- 60 تقاریر بابت افراد خاندان حضرت مسیح موعود (حصہ اول)
- 17- 40 تقاریر بابت افراد خاندان حضرت مسیح موعود (حصہ دوم)
- 18- 20 تقاریر بابت فلسفہ دُعا اور اس کی حقیقت

- 19- 30 دروس بابت رمضان المبارک 2025ء (حصہ دوم)
- 20- 30 تقاریر بابت رمضان المبارک 2025ء (جلد اول)
- 21- 50 تقاریر بر موقیع یوم مسیح موعود 2025ء (جلد دوم)
- 22- 50 تقاریر بر موقیع یوم خلافت 2025ء (حصہ دوم)
- 23- 10 تقاریر بعنوان صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا
- 24- 20 تقاریر بعنوان صحبتِ صالحین
- 25- 50 تقاریر بابت سیرت و شمائل حضرت محمد ﷺ (حصہ سوم)
- 26- 30 تقاریر بابت قولِ سدید و قولِ زور
- 27- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (جلد دوم)
- 28- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (جلد سوم)
- 29- 50 تقاریر برائے نونہالانِ جماعت
- 30- ”مشاہدات“ کی مالا کے 1000 موتی



## زیر ترتیب کتب

1- 50 تقاریر بابت اخلاقیات (جلد چہارم)

2- 50 تقاریر بابت توحید و وجود باری تعالیٰ

3- 50 تقاریر بابت عبادات



